

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن اس مرتبہ جون میں پرائیڈ کی تقریبات کو ورچوئل طور پر منا رہا ہے

برامپٹن، آن (1 جون 2021) – سٹی آف برامپٹن اس سال پرائیڈ کو ورچوئل طور پر منعقد کر رہا ہے، جس میں آن لائن تقریبات، تندرستی کی سرگرمیاں اور دلکش مظاہرے شامل ہوں گے اور اس کا مقصد ایسی محفوظ جگہ کا قیام ہے جہاں LGBTQ2SA کمیونٹی اپنی ایک پہچان بنا سکے اور اپنی متنوع آوازوں اور داستانوں کو شیئر کر سکیں۔

پرائیڈ کی تقریبات کو ایک بین الاقوامی تحریک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جس میں رحمدلی اور شفقت جیسے احساسات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ برامپٹن میں منعقد کی جانے والی پرائیڈ کی تقریبات میں متنوع گروپس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے اور بات چیت کے ذریعے ثقافتی پروگراموں کی حمایت کی جاتی ہے اور پورے شہر میں تنوع اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ایک فریم ورک کی تیاری سے ہماری خوبصورت متنوع کمیونٹی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس سال پرائیڈ ویک کی شہ سرخیوں میں شامل ہیں:

- برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن کے ساتھ پرچم کشائی کی ایک ورچوئل تقریب
- 6 جون کو شام 6 تا 8 بجے تک وچ پروفٹ، بمعہ ٹورانٹو سے تعلق رکھنے والی ایتھوپین/ایریٹریین گلوکارہ و نغمہ نگار آئیو لیلانی کی جانب سے فن کا ایک مظاہرہ
- 7 اور 11 جون سے، موبو ہیلتھ اینڈ کمیونٹی سروسز کی جانب سے دوپہر سے شروع ہونے والے دن کے کھانے اور سیکھنے والے پروگراموں کے ایک سلسلے کا انعقاد کیا جائے گا
- 7 جون کو شام 8 تا 9 بجے تک سٹی آف برامپٹن ریکرینیشن کی جانب سے یوگا اور میڈیٹیشن کی ایک گھنٹے کی نشست
- الگوما یونیورسٹی کی جانب سے 8 جون کو شام 8 بجے پینل بات چیت کی ایک نشست منعقد کی جائے گی
- برامپٹن پرفارمنگ آرٹس کی جانب سے 12 جون کو شام 8 بجے فنون کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے

پرائیڈ ان دی اسکوائر

13 جون کو، TD کی جانب سے پیش کردہ پرائیڈ ان اسکوائر میں پورے دن کی ورچوئل فیملی سرگرمیوں کے ساتھ فے اینڈ فلی کے اسٹوری ٹائم کا وقت دن 11 بجے شروع ہوگا؛ شام 6 بجے لاؤڈ اینڈ پراؤڈ فٹنس ڈانس کا انعقاد کیا جائے گا، جس کی میزبانی سٹی آف برامپٹن ریکرینیشن کرے گا؛ کوئیر یاسٹی: شام 7 بجے مینگو لاسی، اروہ خان، قروت ڈار، الماسی اور سرگن کے ساتھ خصوصی پیشکش بھی اس پروگرام کا حصہ ہو گی۔ شام 8:30 پر میکا بارنيس (Micah Barnes) کی جانب سے فن کا ایک براہ راست مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔

حصہ لینے کے لیے ملاحظہ کریں: [پرائیڈ ان دی اسکوائر](#)

پرائیڈ ان برامپٹن کو TD کا فیاضانہ تعاون حاصل ہے۔ پرائیڈ ویک کی منصوبہ بند سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/pride

اقتباسات

"پرائیڈ ویک کے دوران منعقد کی جانے والی تقریبات کی مدد سے LGBTQ+ کمیونٹی کو تقویت ملے گی اور وہ اپنی متنوع آوازوں اور داستانوں کی خوشیاں منا سکیں گے اور ان کا اشتراک کریں گے جبکہ رہائشیوں کو اس کمیونٹی کے بہت سارے چہروں اور شخصیات کے بارے میں آگاہی حاصل ہو گی۔ سٹی آف برامپٹن مختلف پس منظروں کے حامل لوگوں پر مشتمل پھولوں کے ایک گلدستے کی مانند ہے اور ہم اس تنوع کی بڑھ چڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور پرائیڈ جیسی تقریبات کے انعقاد سے ہمارے رہائشیوں کے درمیان اتفاق و اتحاد اور معاشرتی وابستگی پیدا ہوتی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنی متنوع کمیونٹیوں کو اپنی ساری خدمات اور پروگراموں میں شامل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے اور اپنی متنوع کمیونٹیوں کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور ان کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ متنوع کمیونٹی کو وابستہ رکھنے کی ہماری حکمت عملی کے ذریعے ہماری توجہ اپنی کمیونٹی کی صحیح معنوں میں عکاسی کرنے والی ایک ورک فورس کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca